

Attempt questions

- 1 Crude oil is heated in the fractionation furnace up to: 1 کروڈ آئل کو فرنس میں کس ٹمپریچر تک گرم کیا جاتا ہے
- a)300 °C b)350 °C a)300 °C b)350 °C
c)400 °C d)450 °C c)400 °C d)450 °C
- 2 Petroleum fraction having composition C₇ to C₁₀ is called: 2 C₇-C₁₀ والے پٹرولیم فریکشن کا نام ہے۔
- a)Petroleum gas b) Petroleum ether a) پٹرولیم گیس b) پٹرولیم ایٹھر
c) Gasoline d) Kerosine oil c) کیسولین d) کیروسین آئل
- 3 On which bases froth floatation process take place: 3 فراتھ فلوٹیشن پر اسس کس بنیاد پر کیا جاتا ہے؟
- a) density basis b) Concentration basis a) ڈینسٹی کی بنیاد پر b) کنسنٹریشن کی بنیاد پر
c) Wetting basis d)None of these c) ویٹنگ کی بنیاد پر d) ان میں سے کوئی نہیں
- 4 How many unit are in Pakistan for manufacturing of Urea: 4 پاکستان میں یوریا تیار کرنے کے تقریباً کتنے یونٹس ہیں؟
- a)3 b)6 a)3 b)6
c)9 d)12 c)9 d)12
- 5 The chemical formula of chalcopyrite is: 5 چالکوپرائٹ کا کیمیکل فارمولہ ہے۔
- a) Cu₂S b)CuFe₂S a) Cu₂S b)CuFe₂S
c)CuS d)Fes c)CuS d)Fes
- 6 Petroleum Fraction having composition C₅-C₁₀ is called: 6 C₅-C₁₀ والے پٹرولیم فریکشن کا نام ہے۔
- a)Petroleum gas b) Petroleum ether a) پٹرولیم گیس b) پٹرولیم ایٹھر
c) Gasoline d) Kerosine oil c) کیسولین d) کیروسین آئل
- 7 When NaHCO₃ is heated it forms: 7 جب NaHCO₃ کو گرم کیا جاتا ہے۔ تو بنتا ہے۔
- a)CO₂ b)Ca(OH)₂ a)CO₂ b)Ca(OH)₂
c) CaCO₃ d) CaO c) CaCO₃ d) CaO
- 8 Concentration of copper is carried out by process 8 کاپر اور کی کنسنٹریشن کس طریقہ سے کی جاتی ہے؟
- a) Roasting b) Froth floatation a) روسٹنگ b) فراتھ فلوٹیشن
c) Gravity separation d) Electrostatic separation c) گریویٹی سپریشن d) الیکٹروسٹیٹک سپریشن